

SALTOC Project

Title: Islām aur 'aṣr-i-jadīd

Imprint: Na'ī Dillī: Muḥammad Hafīzuddīn

New Delhi: Zakir Husain Institute of Islamic Studies,
Jamia Millia Islamia University

OCLC: 6727848

Volume 10, no. 3, July 1978

TOC Supplied By: Center for Research Libraries

Islam Aur Asr - i - Jadeed

Jamianagar, New Delhi-110025

Registered with the Registrar of Newspapers at R.N. No. 17614/69

رمضان المبارک میں
روزہ داروں کے لیے
طاقت و توانائی کا ذریعہ

سنکارا

جب آپ روزے رکھ رہے ہوں تو آپ کو اپنی صحت کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ سنکارا روزہ رکھنے والوں کے لیے توانائی اور طاقت کے حصول کا بہترین وسیلہ ہے۔

اس میں وہ تمام ضروری وٹامن اور معدنی اجزاء شامل ہیں جن کی آپ کے جسم کو ضرورت ہے اور انہی کے ساتھ وہ قدرتی اجزاء بھی شامل ہیں جن کی مدد سے روزہ کی خوراک کی پوری غذائیت جسم میں پہنچ کر تندرستی اور قوت کو بڑھاتی ہے۔ اس طرح سنکارا سے آپ دوہرا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔

سحری اور افطار کے وقت سنکارا کی ایک ایک خوراک لینے سے تھکاوٹ دور ہو کر جتنی پیدا ہوگی اور آپ رمضان المبارک کے فرائض آسانی سے ادا کرنے کے لیے چست و مستعد ہو جائیں گے۔



سنکارا

وٹامنوں اور قدرتی اجزاء سے بھرپور

ہر موسم میں گھر بھر کے لیے

مشائی ٹانک

مکمل درجہ

فہرستِ مضامین

- ۱۔ معقول معاشرت میری ۵
- ۲۔ نظامِ کائنات کا کیا فیصلہ ہے؟ مولانا سید کاظم نقوی ۹
- ۳۔ مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ: جدید ہندوستان میں جناب محمد صیب الدین احمد ۳۱
- ۴۔ تاریخِ ادبیاتِ تاجکستان (ایک مطالعہ) ڈاکٹر کبیر احمد جاسی (علیگ) ۵۲
- ۵۔ ڈاکٹر اقبال اور انسانیت جناب میر ولایت علی ۷۳
- ۶۔ تبصرہ ڈاکٹر ثناء احمد فاروقی ۸۲